



صحت کے کوریج اور لاگتوں کی ادائیگی میں مدد کے لیے درخواست

لائے درخواست HealthCare.gov ←

Marketplace تھیں اچھی طرح رہنے میں مدد کے لئے جامع کوریج پیش کرنے کے لئے منصوبہ بنایا ہے۔

ٹیکس کریڈٹ جو کہ فوری طور پر صحت کی کوریج کے لئے آپ کے پریمیم کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

طبی امداد یا بچوں کا صحت بیم پروگرام (CHIP) کے ذریعے مفت یا کم لاگت کی کوریج۔ مخصوص آمدنی کی سطح مفت یا کم قیمت کے پروگرام کے لئے ابل بوسکتے ہیں۔

ابنے گھر کے کسی فرد کے لئے درخواست دینے کے لئے اس درخواست کا استعمال کریں۔

یہاں تک کہ اگر آپ کے شریک حیات یا آپ کے بچے کی صحت کی کوریج موجود ہو تو بھی درخواست دین۔ آپ مفت یا کم لاگت کوریج کے ابل بوسکتے ہیں۔

اگر آپ تھا بیس تو، آپ ایک مختصر فارم استعمال کرسکتے ہیں۔ HealthCare.gov پر جائیں۔

اپل گھر ان جن میں تارکین وطن شامل ہیں وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوریج کے ابل نہیں ہیں۔ آپ اپنے بچے کے لئے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست دینے سے آپ کی امیگریشن ہیثیٹ یا مستقل ربانی یا شہری بننے کے امکانات متاثر نہیں ہوں گے۔

اگر اس درخواست کو پُر کرنے میں کوئی آپ کی مدد کر رہا ہے تو، آپ کو ضمیم C مکمل کرنے کی ضرورت بوسکتی ہے۔

سوشل سیکورٹی نمبر (SSNs) (یا کسی بھی ابل تارکین وطن کے لئے دستاویز نمبر جن کو کوریج کی ضرورت بوتی ہے)۔

آپ کے خاندان میں بر فرد کے لیے آجر اور آمدنی کی معلومات (جیسے تتخواہ کے ٹکٹ، W فارم، یا اجرت اور ٹیکس کے بیانات سے)۔

کسی موجودہ صحت بیم کے لیے پالیسی نمبر۔

ملازمت سے متعلق کسی بھی صحت بیم کے بارے میں معلومات جو آپ کے گھر کو دستیاب ہے۔

بہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آمدنی اور دیگر معلومات طلب کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کے کوریج کے ابل بھی اور کیا آپ کو اس کی ادائیگی میں کوئی مدد مل سکتی ہے۔ بہ آپ کے ذریعہ فرائم کی گئی تمام معلومات کو، قانونی تقاضوں کے مطابق خفیہ اور محفوظ رکھیں گے۔ رازداری کے قانون کے بیان کے لئے HealthCare.gov ملاحظہ کریں یا پدایات پڑھیں۔

ابنے پاس رکھنے کے لئے ایک نقل بنائیں، پھر اپنی مکمل اور دستخط شدہ درخواست صفحہ 8 پر دیے گئے پڑے پر ارسال کریں۔ اگر آپ کے پاس وہ تمام معلومات نہیں ہیں جو بنے طلب کی بھیں تو بھی اپنی درخواست پر دستخط کر کے جمع کروائیں۔ ہم 2-1 بیغونے کے اندر آپ کے ساتھ پیروی کریں گے، اور اگر بھی مزید معلومات کی ضرورت ہو تو آپ کو مارکیٹ پلیس سے کال مل سکتی ہے۔ بماری جانب سے آپ کی درخواست پر عمل درآمد ہونے کے بعد آپ کو اپلیٹ کا نوش موصول ہو گا۔ اگر آپ کو ہم سے جواب موصول نہیں ہوتا تو، Marketplace کال سیٹر سے رابطہ کریں۔ اس درخواست کو پُر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو صحت کی کوریج خریدنی پوچھیں گے۔

آن لائن: HealthCare.gov

فون: مارکیٹ پلیس کے کال سیٹر کو 1-800-318-2596 پر کال کرنا چاہیے۔

ذاتی طور پر: آپ کے علاقے میں صلاح کاران (کونسلرزر) بوسکتے ہیں جو مدد کرسکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لئے HealthCare.gov ملاحظہ کریں، یا مارکیٹ پلیس کے کال سیٹر کو 1-800-318-2596 پر کال کریں۔

دیگر زیانیں: اگر آپ کو انگریزی کے علاوہ زبان میں مدد کی ضرورت ہے تو، 1-800-318-2596 پر کال کرنا چاہیے۔

اس درخواست کا استعمال کون کر سکتا ہے؟



درخواست دینے کے لئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت بوسکتی ہے



بہ ان معلومات کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟



اگے گیا ہوتا ہے؟



اس درخواست میں مدد حاصل کریں



آپ کو قابل رسائی شکل میں اپنی معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، جیسا کہ بڑا پرنسپ، بریل یا اٹیو۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا ہے تو آپ کو شکایت دائر کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ CMS.gov/about-cms/agency Information/aboutwebsite/CMSNonDiscriminationNotice TTY 1-800-318-2596 پر کال کر سکتے ہیں۔

This product was produced at U.S. taxpayer expense.
Health Insurance Marketplace® is a registered service mark of the U.S. Department of Health & Human Services.





سیاہ یا گہری نیلی روشنائی استعمال کرتے ہوئے بڑے حروف میں پرنسٹ کریں۔
خانوں میں بھریں (○) اس طرح سے ←

مرحلہ 1: ہمیں اپنے بارے میں بتائیں۔

(آپ کی درخواست کے لیے رابطہ فرد کے طور پر ہمیں گھرانے کے ایک بالغ فرد کی ضرورت ہے۔)

1. بیلا نام	آخری نام	ادرمیانی نام	لاحقة
2. گھر کا پتہ (اگر آپ کا کوئی پتہ نہ ہو تو اسے خالی چھوڑ دیں) 3. گھر کا پتہ 2			
4. شہر	5. ریاست	6. زب کوڈ	7. ملک
8. ڈاک کا پتہ (اگر گھر کے پتے سے مختلف ہو) 9. ڈاک کا پتہ 2			
10. شہر	11. ریاست	12. زب کوڈ	13. ملک
14. فون نمبر 15. دوسرا فون نمبر			
16. کیا آپ اس درخواست کے بارے میں معلومات بدزیرعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ○ باں ○ نہیں ای میل پتہ:			
17. ترجیحی زبان:	تحریری	بولنے والا	

مرحلہ 2: اپنے گھرانے کے بارے میں ہمیں بتائیں۔

اس درخواست پر آپ کو کسے شامل کرنے کی ضرورت ہے؟

اپنے گھر کے بر فرد کے لئے مرحلہ 2 صفحات کو مکمل کریں، پہاں تک کہ اگر اس شخص کے پاس پہلے سے بی صحت کی کوریج موجود ہے۔ اس درخواست میں موجود معلومات سے ہمیں یہ یقین بنائے میں مدد ملتی ہے کہ بر ایک کو ان کی بہترین کوریج مل سکے۔ امداد کی قسم جس پروگرام کے لئے آپ اپنے وہ آپ کے گھر کے افراد کی تعداد اور آپ کے گھریلو امدادی پر مبنی ہے۔ اگر آپ کسی کو شامل نہیں کرتے ہیں، پہاں تک کہ اگر ان کے پاس پہلے سے بی صحت کی کوریج ہے تو، آپ کے ایلٹ کے نتائج متاثر ہو سکتے ہیں۔

ان بالگوں کے لیے جنہیں کوریج کی ضرورت ہے:

ان لوگوں کو ایسی صورت میں بھی شامل کریں اگر وہ خود صحت کے کوریج کے لیے درخواست نہ دے رہے ہوں:
شریک حیات

- 21 سال سے کم عمر کا کوئی بیٹا یا بیٹی جس کے ساتھ وہ رہتے ہیں، سوتیلی بچوں سمیت۔
- ایک بی وفاqi انکم ٹیکس ریٹن میں شامل کوئی دیگر فرد (شمول 21 سال سے زیادہ عمر کے کوئی بچے جن کے لیے والدین کے ٹیکس ریٹن میں دعویی ہو)۔ صحت کا کوریج حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

21 سال سے کم عمر کے بچے جنہیں کوریج کی ضرورت ہو:

ان لوگوں کو ایسی صورت میں بھی شامل کریں اگر وہ خود صحت کے کوریج کے لیے درخواست نہ دے رہے ہوں:
والدین (سوتیلے والدین) میں سے کوئی جن کے ساتھ وہ رہتے ہوں

- کوئی بھائی بہن جن کے ساتھ وہ رہتے ہوں
- بیٹا یا بیٹی جو ساتھ رہتے ہوں، بشمول سوتیلے بچے
- کوئی بھی شریک حیات جس کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔

ایک بی وفاqi انکم ٹیکس ریٹن میں شامل کوئی دیگر فرد۔ صحت کا کوریج حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اپنے خاندان کے بر فرد کے لیے مرحلہ 2 مکمل کریں۔

خود سے شروع کریں، پھر دوسرا بالغوں اور بچوں کو شامل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں 2 سے زیادہ افراد ہیں تو، آپ کو صفحات کی ایک کاپی بنائے اور ان کو جوڑنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو گھرانے کے ان ممبران کے لیے ترک وطن کی صورتحال یا SSNs فرایم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں کوریج کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون کے مطابق، یہ آپ کی فرایم کردہ تمام معلومات کو نجی اور محفوظ رکھیں گے۔ ہم ذاتی معلومات صرف اس بات کی جانچ پڑھانے کے لیے استعمال کریں گے کہ کیا آپ صحت کی کوریج کے لیے اپنے یا نہیں۔



مکمل نہ کریں۔ یہ صفحہ معلوماتی مقاصد کے لئے ہے



صفحہ 2 از 2

مرحلہ 2: فرد 1 (خود سے شروع کریں)۔

مرحلہ 2 مکمل کریں اپنے لئے ، اپنے شریک حیات / سائنسی اور انحصار کرنے والے افراد کے لئے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ، اور / یا آپ کے اسی وفاqi انکم ٹیکس ریٹن میں کوئی بھی فرد۔ کس کو شامل کرنا اس بارے میں مزید معلومات کے لئے صفحہ 1 دیکھیں۔ اگر آپ ٹیکس ریٹن فائل نہیں کرتے ہیں تو ، اپنے کھر کے لوگوں کو شامل کرنا یاد رکھیں۔

1. پہلا نام	درمیانی نام	آخری نام	لاحق
2. فرد 1 سے رشتہ؟ خود	3. کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	4. تاریخ پیدائش (ماہ/بند/سال) 	5. جنس <input checked="" type="radio"/> عورت <input type="radio"/> مرد

6. سوشل سیکیورٹی نمبر (SSN) میں ایسی صورت میں سوشل سیکیورٹی نمبر (SSN) نمبر کی ضرورت ہے اگر آپ صحت کا کوریج چاہتے ہیں اور آپ کے پاس SSN ہے یا آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آمدنی اور دیگر معلومات کی جانچ پڑتال کے لئے SSN کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کریں کہ صحت کی کوریج کی ادائیگی میں کون مدد کرے ابل ہے۔ SSN حاصل کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں SSA.gov پر 1-800-325-0778 اسے 1-800-772-1213 پر کال کریں۔ TTY صارفین 4325-0778 اسے 1-800-325-0778 پر کال کر سکتے ہیں۔

7. کیا آپ کا منصوبہ اگلے سال وفاqi ٹیکس ریٹن فائل کرنے کا ہے؟ اپنے صورت میں بھی کوریج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر آپ وفاqi انکم ٹیکس ریٹن فائل نہ کرتے ہوں۔ <input checked="" type="radio"/> بان۔ اگر بان، تو a سے c تک جواب دیں۔ <input type="radio"/> نہیں۔ اگر نہیں تو ، آئٹم C پر جائیں۔	a. کیا آپ کا منصوبہ اگلے سال وفاqi ٹیکس ریٹن فائل کرنے کا ہے؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	b. اگر بان تو شریک حیات کا نام لکھیں:
c. کیا کسی دیگر فرد کے ٹیکس ریٹن پر بطور منحصر فرد آپ کے لیے دعوی کیا جائے گا؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	c. کیا کسی دیگر فرد کے ٹیکس ریٹن پر بطور منحصر فرد آپ کے لیے دعوی کیا جائے گا؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	اگر بان تو، ٹیکس فائلر کے نام کی فہرست بنائیں۔

8. کیا آپ حاملہ ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں a. اگر بان تو، اس حاملے کے دوران کتنے بچوں کی توقع ہے؟	9. کیا آپ کو صحت کا کوریج درکار ہے؟ اگر آپ کا کوریج موجود ہو تو بھی، یہاں بہتر کوریج یا کم لاغٹ والا کوئی پروگرام بوسکتا ہے۔ <input checked="" type="radio"/> بان۔ اگر بان تو، ذیل کے تمام سوالوں کے جواب دیں۔ b. اگر نہیں تو، صفحہ 3 پر آمدنی والے سوالات پر جواب دیں۔ اس صفحہ کے باقی حصے کو خالی چھوڑ دیں۔
10. کیا آپ کو کوئی جسمانی، دماغی، یا جذباتی صحت کی کیفیت ہے جس کے سبب سرگرمیوں (جیسے غسل، لباس پہننے، روزمرہ کے کام کاچ، وغیرہ) میں رکاوٹ پیدا ہو، کوئی خاص طبی ضرورت موجود ہو، یا کسی طبی سبولت یا نرنسنگ ہوم میں رہنے کی ضرورت ہو؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	11. کیا آپ امریکی شہری یا امریکی نژاد ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں
12. آپ حاصل کردہ شہریت والے یا فطری شہری ہیں؟ (عام طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش امریکہ سے باہر بونی ہے) <input checked="" type="radio"/> بان۔ اگر بان تو، A اور B کو مکمل کریں۔ <input type="radio"/> نہیں۔ اگر نہیں، تو سوال 13 پر جاری رکھیں۔	a. ایلين نمبر:

13. اگر آپ امریکی شہری یا امریکی نژاد نہیں ہیں تو، کیا آپ کے پاس اپنی امریکی شہریت والی حیثیت ہے؟ <input checked="" type="radio"/> بل۔ سٹولویز کی قسم اور ID نمبر درج کریں بدلیت پر جائیں۔ پناہی کی قسم (اختیاری) امریکی شہریت والی حیثیت کی قسم (اختیاری) ایلين یا 94-1 نمبر

14. کیا آپ گزشتہ 3 مہینوں سے طبی بلون کی ادائیگی میں مدد چاہتے ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں b. کیا آپ کے شریک حیات یا والدین، سابق فوجی یا یوایس ملٹری کے فعال ٹیکسی والے ممبر ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں c. کیا آپ گزشتہ 3 مہینوں سے طبی بلون کی ادائیگی میں مدد چاہتے ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	15. کیا آپ یا اپنے کم عمر کے ایک بھر کے ساتھ رہتے ہیں، اور کیا آپ اس بھر کی دیکھ بھال کرنے والے مرکزی فرد ہیں؟ (اگر آپ یا اپنے کم عمر کے شریک حیات اس بھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو "بل" منتخب کریں۔) <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں 19 سال سے کم عمر بچوں کے نام اور تعلقات کی فہرست بنائیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔
---	--

16. کیا آپ کل وقتی طالب علم ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں	17. کیا آپ 18 سال یا زیادہ کی عمر میں رضاعی نگہداشت میں رہے ہیں؟ <input checked="" type="radio"/> بان <input type="radio"/> نہیں
---	---

اگلے صفحہ پر جاری رکھیں



اختیاری: (یہ معلومات دینے سے ابیت، پلان کے اختیارات یا اخراجات پر اثر نہیں ہو گا)

اختیاری:

19. نسل:

- سفید فام ○ سیاہ فام یا افریقی امریکی ○ امریکی انٹن یا الاسکا کے قبائلی ○ فلپائن ○ جاپانی ○ کوریانی ○ ایشیائی بندوستانی ○ چینی ○ ویتنامی ○ دیگر ایشیائی ○ من مواطنی دیگر ایشیائی ○ گوامینین یا شیمازو ○ ساموآن ○ دیگر جزائر بحر الکابل کا باشندہ یہ ○ دیگر

آخرِ اجابة واحدہ.

20. پیدائش کے وقت دی گئی جنس (آپ کے برٹھ سریئنیکٹ پر موجود ہو سکتی ہے):

- عورت ○ مرد ○ دیگر: معلوم نہیں ○ جواب نہیں دینا چاہئے

موجودہ صفت:

- عورت ○ مرد ○ مختن (Transgender) عورت ○ مختن (Transgender) مرد ○ کوئی اور اصطلاح: معلوم نہیں ○ جواب نہیں دینا چاہئے

جنسی رجحان:

- دو جنس پرست (Bisexual) ○ بہ جنس پرست ○ صرف مختلف کی طرف رجحان رکھنے والے (بہ جنس پرست نہیں) ○ کوئی اور اصطلاح: معلوم نہیں ○ جواب نہیں دینا چاہئے

مرحلہ 2: فرد 1 (خود سے شروع کریں)

موجودہ ملازمت اور آمدنی کی معلومات

- ذاتی روزگار: نقطہ 29 پر جائیں.

- ملازمت میں نہیں: نقطہ 30 پر جائیں.

- ملازمت میں نہیں: اگر آپ ابھی ملازمت میں ہیں تو، ہمیں اپنی آمدنی بتائیں۔ نقطہ 20 سے شروع کریں۔

موجودہ ملازمت 1:

20. آجر کا نام:

a. اجر کا پتہ (اختیاری)

21. اجر کا فون نمبر	d. زپ کوڈ	c. ریاست	b. شہر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

23. بر بفتے کام کے اوسط گہٹہٹ

22. اجرت/بخشش (ٹیکسٹ سے قبل)		
<input type="radio"/> بفتحہ واری	<input type="radio"/> بر 2 بفتے پر	<input type="radio"/> بلحاظ گہٹہٹ

مہینے میں دوبار سالانہ

\$

موجودہ ملازمت 2: (اگر آپ مزید کام کرتے ہیں اور مزید جگہ کی ضرورت ہے تو، کاغذ کا دوسرا صفحہ منسلک کریں)

24. آجر کا نام:

a. اجر کا پتہ (اختیاری)

25. اجر کا فون نمبر	d. زپ کوڈ	c. ریاست	b. شہر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

27. بر بفتے کام کے اوسط گہٹہٹ

26. اجرت/بخشش (ٹیکسٹ سے قبل)		
<input type="radio"/> بفتحہ واری	<input type="radio"/> بر 2 بفتے پر	<input type="radio"/> بلحاظ گہٹہٹ

مہینے میں دوبار سالانہ

\$

28. گرشنہ سال، کیا آپ نے: ملازمتیں تبدیل کیں کام چھوڑا کم گہٹہٹ کام کرنا شروع کیا ان میں سے کوئی نہیں

اگر اپنا روزگار ہو تو، a اور b کا جواب دیں:

a. کام کی قسم:

b. ذاتی روزگار سے اس مہینے آپ کو کتنی خالص آمدنی (یعنی اخراجات کی ادائیگی کے بعد منافع) حاصل ہو گئی؟ بدایات پر جائیں۔

\$

اگلے صفحہ پر جاری رکھیں



مکمل نہ کریں۔ یہ صفحہ معلوماتی مقاصد کے لئے ہے



صفحہ 4 از 11

30. اس مہینے آپ کو حاصل ہونے والی دیگر آمدنی: ان سبھی کو پُر کریں جس کا اطلاق ہوتا ہو، اور رقم بناں اور آپ کو یہ کتنی کثرت سے ملتی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہو تو یہاں پُر کریں۔

نوث: آپ کو ہمیں چالٹا سپورٹ، سابق فوجی والی ادائیگیوں، یا سیلیمائل سیکیورٹی انکم (SSI) کے بارے میں بناۓ کی ضرورت نہیں ہے۔

<input type="radio"/> موصولہ گزارہ خرچ (نوث: صرف 1/1/2019 سے پہلے ہتمی قرار دی گئی طلاقوں کے لئے)	بے روزگار	کتنی کثرت سے؟	\$
\$ کتنی کثرت سے؟			
<input type="radio"/> زراعت/امبی گیری سے خالص آمدنی	پنسن	کتنی کثرت سے؟	\$
\$ کتنی کثرت سے؟			
<input type="radio"/> خالص کرایہ / رائٹی	سوشل سیکیورٹی	کتنی کثرت سے؟	\$
\$ کتنی کثرت سے؟			
<input type="radio"/> دیگر آمدنی، قسم:	ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس	کتنی کثرت سے؟	\$
\$ کتنی کثرت سے؟			

31. یقینیاں: ان سبھی کو پُر کریں جس کا اطلاق ہوتا ہو، اور رقم بناں اور آپ کو یہ ادائیگی کتنی کثرت سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بعض چیزوں کے لئے ادائیگی ہوتی ہے جس سے وفاqi انکم ٹیکس ریٹن میں منہا کیا جاسکتا ہے تو، یہیں اس کے بارے میں بناۓ سے صحت کی کورجی کی لاگت نہوڑی کم بوسکی ہے۔ آپ جو چالٹا سپورٹ ادا کرتے ہیں یا مجموعی ذاتی ملازمت کے حوالہ میں پہلے سے بنائی گئی قیمت (سوال 29b) شامل نہ کریں۔

<input type="radio"/> ادا کردہ گزارہ خرچ (نوث: صرف 1/1/2019 سے پہلے ہتمی قرار دی گئی طلاقوں کے لئے)	\$ کتنی کثرت سے؟		
\$ کتنی کثرت سے؟			

32. اس سوال کو مکمل کریں اگر سال کے دوران آپ کی آمدنی میں تبدیلی ہوئی ہو، جیسا کہ اگر آپ سال کے صرف کچھ عرصے کے دوران کوئی ملازمت کرتے ہیں یا کچھ مہینوں تک وظیفہ لیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ماہانہ آمدنی میں تبدیلی کی موقع نہیں کرتے ہیں تو، چھوٹ کر دوسرے فرد پر جائز۔

<input type="radio"/> اکے سال آپ کی کل آمدنی (اگر آپ کو لگتا ہے کہ مختلف بوگی)	اس سال آپ کی کل آمدنی	\$ کتنی کثرت سے؟	\$
\$ کتنی کثرت سے؟			

شکریہ! ہم آپ کے بارے میں بس بھی جانتا چاہتے ہیں۔



مکمل نہ کریں۔ یہ صفت معلوماتی مقاصد کے لئے ہے

صفحه 5 از 11



نوت: اگر اس فرد کو صحت کے کوڑیج کی ضرورت نہیں ہے تو، اس صفحہ پر بس سوالات 1-10 کا جواب دیں۔ اگر آپ کے مگھر انہی میں 2 سے زیادہ لوگ ہیں تو صفحہ 5-6 کی کالی بنا لیں۔

مرحله 2: فرد 2

اُن صفحہ کو اپنے شریک جیات / پارٹر اور ان بجوس کے لیے، جو آپ کے ساتھ رہتے ہوں، اور ایسا اُب و فاقی انکم تیکس ریٹن فائل کرتے ہیں تو اس میں شامل کسی فرد کے لیے مکمل کریں۔ اگر آپ تیکس ریٹن فائل نہیں کرتے ہیں تو بھی گھرانے کے ان میران کو شامل کرنا یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہوں۔ کسے شامل کرنا یہ اس کے بارے میں زیاد معلومات کے لیے صفحہ 1 دیکھیں۔

درمیانی نام	آخری نام	لاحقہ
2. فرد 1 سے رشتہ؟ بیویات پر جائیں	3. کیا فرد 2 شادی شدہ ہے؟ ○ بال نہیں	4. تاریخ پیدائش (ماہ/بین/سال) ○ عورت مرد
6. سوشن سیکورٹی نمبر (SSN) (SSN) سے تو اگر آپ فرد 2 کے لیے صحت کا کوریج چلتے ہیں اور فرد 2 کے پاس SSN ہے تو میں اس کی ضرورت ہے۔	7. کیا فرد 2 اسی پنے پر رہتا رہتی ہے جہاں فرد 1 رہتا رہتی ہے؟ اگر نہیں تو، پتہ درج کریں:	5. جنس ○ عورت مرد
8. کیا فرد 2 کا مصوبہ اکٹے سال وفاقی ٹیکس ریشن فائل کرنے کا ہے؟ (اپ ایسی صورت میں بھی کوریج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اگر فرد 2 وفاقی انکم ٹیکس ریشن فائل نہ کرتا/کرتی ہو) ○ بال، اگر بال، تو براہ کرم سوالات a-c کا جواب دیں۔ اگر فرد 2 شریک حیات کے ساتھ مشترک طور پر فائل کریں گے اگی؟ اگر بال تو شریک حیات کا نام لکھیں:	9. کیا فرد 2 حاملہ ہے؟ ○ بال نہیں? اگر بال تو، اس حمل کے دوران کتھے بجوں کی نوچے ہے؟ a. ○ بال b. کیا فرد 2 اپنے ٹیکس ریشن پر کسی منحصر افراد کا دعویٰ کریں گے اگی؟ اگر بال تو، منحصر افراد کے نام درج کریں: c. کیا کسی دیگر فرد کے ٹیکس ریشن پر بطور منحصر، فرد 2 کے لیے دعویٰ کیا جائے گا؟ ٹیکس فائل کرنے والے سے فرد 2 کا کیا رشتہ ہے؟ اگر بال تو، ٹیکس فائل کرنے والے کا نام درج کریں:	3. کیا فرد 2 شریک حیات کے ساتھ مشترک طور پر فائل کریں گے اگی؟ ○ بال نہیں
10. کیا فرد 2 کو صحت کی کوریج کی ضرورت ہے؟ (اگر فرد 2 کا کوریج موجود ہو تو بھی، یہاں پہنچ کوریج یا کم لاگٹ والا کونی پروگرام بوسکتا ہے) ○ بال، اگر بال تو، ذیل کے تمام سوالوں کے جواب دیں۔ 11. کیا شخص 2 کی جسمانی، ذہنی، یا جذباتی صحت کی حالت ہے جو سرگرمیوں (جیسے غسل، کپڑے بدلانے، روز مرہ کے کام، وغیرہ) میں صحت کی دیکھ بھال کی خصوصی ضرورت ہے، یا طبی سہولت یا تیمار خانہ میں رہتا ہے؟ ○ بال نہیں 12. کیا فرد 2 امریکی شہری یا امریکی نژاد ہے؟ ○ بال نہیں 13. کیا فرد 2 حاصل کردہ شہریت والے یا فطری شہری ہیں؟ (عام طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش امریکہ سے باپر ہوئی ہے) ○ بال نہیں، اگر بال تو، سوال 14 پر جاری رکھیں۔ a. ایلین نمبر: b. سریفیکٹ نمبر: a اور b مکمل کرنے کے بعد سوال 15 پر جائیں۔	14. اگر فرد 2 امریکی شہری، یا امریکی نژاد نہیں ہیں تو، کیا ان کے پاس اپل امیگریشن والی حیثیت ہے؟ ○ بل، دستاویز کی قسم اور ID نمبر درج کریں، بدلیت پر جائیں امیگریشن دستاویز کی قسم: فرد 2 کا وہی نام لکھیں جو ان کے امیگریشن دستاویز پر درج ہے۔ 15. کیا فرد 2، 1996 سے امریکہ میں ربی/ربی بیں؟ ○ بال نہیں b. کیا فرد 2، فرد 2 کے شریک حیات یا والدین، سابق فوجی یا یوایس ملٹری کے فعل ڈیٹوی والے ممبر ہیں؟ ○ بال نہیں c. کیا فرد 2 گزشتہ 3 مہینوں سے طلبی بلوں کی ادائیگی میں مدد جاتے ہیں؟ ○ بال نہیں 16. کیا فرد 2، 19 سال سے کم عمر کے کم ازکم ایک بچے کے ساتھ رہتے/رہتی ہیں، اور کیا فرد 2 اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والے مرکزی فرد ہیں؟ ("بال" میں بھریں اگر شخص 2 با ان کی شریک حیات اس بچے کا خیال رکھتا ہے تو). ○ بال نہیں 17. 19 سال سے کم عمر والے بجوں کا نام اور رشتہ بتائیں جو فرد 2 کے ساتھ ان کے گھرانے میں رہتے ہوں: یہ وہی بچے بوسکتے ہیں جن کا اندرجاء صفحہ 2 پر ہے۔ کیا فرد 2، 18 سال یا زیادہ کی عمر میں رضاعی نگداشت میں ربی/ربی بیں؟ اگر فرد 2 کی عمر 22 سال یا کم ہے تو ان سوالوں کے جواب دیں: 18. کیا فرد 2 کا ملازمت کے نوتوسطے سے بیمه ہے اور گزشتہ 3 مہینوں کے دوران یہ ختم بوجھا ہے؟ ○ بال نہیں a. اگر بال تو اختتام کی تاریخ: b. بیمه ختم ہونے کی وجہ: 19. کیا فرد 2 کل وقتی طالب علم ہے؟ ○ بال نہیں	1. پہلا نام

اگلے صفحہ پر جاری رکھیں

HealthCare.gov ملاحظہ کریں یا ہمیں 800-318-2596 یا 800-889-4325 تک مارکنگ مدد فراہم کرنے والے زبان میں مدد کی ضرورت ہے تو، 800-318-2596 پر کال کریں اور کسٹمر سروس کے نمائندے کو اپنی مطلوبہ زبان بتانیں۔ میں آپ کو بلا معاوضہ مدد فراہم کرنی گی۔ TTY 800-889-4325 پر کال کر سکتے ہیں۔



اختیاری: (یہ معلومات دینے سے ابیت، پلان کے اختیارات یا اخراجات پر اثر نہیں ہو گا)

اختیاری:

21. نسل:

- سفید فام یا افریقی امریکی ○ امریکی انٹین یا الاسکا کے قبائلی ○ فلپائن ○ جاپانی ○ کوریانی ○ ایشیائی بندوستانی ○ چینی ○ وینتمی ○ دیگر ایشیائی ○ من مواطنی دیگر ایشیائی ○ گوامینین یا سیمازو ○ ساموان ○ دیگر جائز بر الکابل کا باشدہ یہ ○ دیگر

آخرِ إجابة واحدة.

22. پیدا ش کے وقت دی گئی جنس (فرد 2 کے برٹھ سرٹیفیکٹ پر موجود ہو سکتی ہے):

- عورت ○ مرد ○ دیگر: ○ معلوم نہیں ○ جواب نہیں دینا چاہئے

موجودہ صفت:

- عورت ○ مرد ○ مختن (Transgender) عورت ○ مختن (Transgender) مرد ○ کوئی اور اصطلاح: ○ معلوم نہیں ○ جواب نہیں دینا چاہئے

جنسی رجحان:

- دو جنس پرست (Bisexual) ○ بہ جنس پرست ○ صرف مختلف کی طرف رجحان رکھنے والے (بہ جنس پرست نہیں) ○ کوئی اور اصطلاح: ○ معلوم نہیں ○ جواب نہیں دینا چاہئے

مرحلہ 2: فرد 2

بھیں کسی ایسی آمدنی کے بارے میں بتائیں جو فرد 2 کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر فرد 2 کے صحت کے کوڑیج کی ضرورت نہ ہو تو بھی یہ صفحہ مکمل کریں۔

موجودہ ملازمت اور آمدنی کی معلومات

- ذاتی روزگار: ○ ملازمت میں بھیں: گر فرد 2 ابھی ملازمت کر رہے / ربی بھیں تو، بھیں ان کی آمدنی کے بارے میں بتائیں۔ نقطہ 32 سے شروع کریں۔ نقطہ 31 پر جائیں۔

موجودہ ملازمت 1:

اجر کا نام:

a. آجر کا پتہ (اختیاری)

b. شہر



23. آجر کا فون نمبر

d. زب کوڈ

c. ریاست



25. بر بفتے کام کے اوسط گھنٹے

بر 2 بفتے پر

ب. شہر



بلحاظ گھنٹہ



مہینے میں دوبار

میلانہ

24. اجرت/یخشش (ٹیکسٹ سے قبل)

a. آجر کا پتہ (اختیاری)

b. شہر



27. آجر کا فون نمبر

d. زب کوڈ

c. ریاست



29. بر بفتے کام کے اوسط گھنٹے

بر 2 بفتے پر

ب. شہر



بلحاظ گھنٹہ



مہینے میں دوبار

میلانہ

28. اجرت/یخشش (ٹیکسٹ سے قبل)

a. آجر کا پتہ (اختیاری)

b. شہر



30. گذشتہ سال، کیا فرد 2 نے: ○ ملازمتیں تبدیل کیں ○ کام چھوڑا ○ کم کھنٹے کام کرنا شروع کیا ○ ان میں سے کوئی نہیں

31. گر فرد 2 کا ذاتی روزگار ہے تو، a اور b کو مکمل کریں:

a. کام کی قسم:

b. ذاتی روزگار سے اس مہینے فرد 2 کو کتنی خالص آمدنی (بڑنس کے اخراجات کی ادائیگی کے بعد منافع) حاصل ہو گی؟

بداشت پر جائیں۔



\$

اگلے صفحہ پر جاری رکھیں



مکمل نہ کریں۔ یہ صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے



صفحہ 7 از 11

32. اس مہینے فرد 2 کو حاصل ہونی دیگر آمدنی: ان سبھی کو پُر کریں جس کا اطلاق ہوتا ہو، اور رقم بتابیں اور فرد 2 کو یہ ادائیگی کتنی کثرت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہو تو پہاں پُر کریں۔
نوث: فرد 2 کو بھیں چانل سپورٹ، سابق فوجی والی ادائیگیوں، یا سپلائمنٹ سیکیورٹی انکم (SSI) کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

<input type="radio"/> موصولہ گزارہ خرچ (نوث: صرف 19/1/2019 سے پہلے ہتمی قرار دی گئی طلاقوں کے لئے)	\$	\$
<input type="radio"/> کتنی کثرت سے؟	\$	\$
<input type="radio"/> زراعت/مابی گیری سے خالص آمدنی	\$	\$
<input type="radio"/> کتنی کثرت سے؟	\$	\$
<input type="radio"/> خالص کرایہ / راثٹی	\$	\$
<input type="radio"/> کتنی کثرت سے؟	\$	\$
<input type="radio"/> دیگر آمدنی، قسم:	\$	\$
<input type="radio"/> کتنی کثرت سے؟	\$	\$

33. کٹوٹیاں: ان سبھی کو پُر کریں جس کا اطلاق ہوتا ہو، اور رقم بتابیں اور فرد 2 کو یہ ادائیگی کتنی کثرت سے ہوتی ہے۔ اگر فرد 2 کو بعض چیزوں کے لیے ادائیگی ہوتی ہے جسے وفاقی انکم ٹیکس ریٹن میں منبا کیا جاسکتا ہے تو، بھیں اس کے بارے میں بتائی سے صحت کے کوریج کی لگت تھوڑی کم بوسکی ہے۔ فرد 2 جو چانل سپورٹ ادا کرتے ہیں یا مجموعی ذاتی ملازمت کے جواب میں پہلے سے بتائی گئی قیمت (سوال 31b) شامل نہ کریں۔

<input type="radio"/> ادا کردہ گزارہ خرچ (نوث: صرف 19/1/2019 سے پہلے ہتمی قرار دی گئی طلاقوں کے لئے)	\$	\$
<input type="radio"/> کتنی کثرت سے؟	\$	\$

34. اس سوال کو تبھی مکمل کریں اگر سال کے دوران فرد 2 کی آمدنی میں تبدیلی ہونی ہو، جیسے فرد 2 سال کے کسی حصے میں صرف ایک کام کرتے/کرتی ہیں یا چند مہینوں کے لیے وظیفہ حاصل کرتے/کرتی ہیں۔ اگر فرد 2 کو مابانہ آمدنی میں تبدیلیوں کی توقع نہیں تو اسے چھوڑ کر اگلے شخص پر جائیں۔

<input type="radio"/> اگلے سال فرد 2 کی کل آمدنی	\$	\$
<input type="radio"/> اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آمدنی کی پیشن گوئی کرنا مشکل ہو تو بھریں۔	\$	\$

شکریہ! ہم فرد 2 کے بارے میں بس بھی جانتا چاہتے ہیں۔





مرحلہ 3: امریکی اینٹین یا ال اسکا آبائی (AI / AN) گھریلو ممبران

1. کیا آپ بیس یا آپ کے گھر والے کوئی امریکی اینٹین یا ال اسکا آبائی?
بان، اگر بان تو، مرحلہ 4 پر جاری رکھیں، ساتھی بی ضمیمہ B مکمل کریں اور اسے درخواست کے ساتھ شامل کریں۔
○ نہیں۔ اگر نہیں، تو مرحلہ 4 پر جاری رکھیں۔ ○

مرحلہ 4: آپ کے گھر کی صحت کی کوریج۔

1. کیا اس درخواست میں کوئی بھی ایسا فرد تھا جو گزشتہ 90 دنوں میں Medicaid یا چلترنر بیلٹھ انسورنس پروگرام (CHIP) کے لیے ابل نہیں تھا؟
(بان کو تباہی منتخب کریں جب کوئی شخص آپ کی ریاست کے ذریعہ اس کوریج کا ابل نہ پایا گیا تو نہ کہ Marketplace کے)
○ بان ○ نہیں
کون؟

یا، کیا اس درخواست میں کوئی ایسا شخص بھی تھا جو گزشتہ 5 سالوں میں CHIP یا Medicaid کے لیے امیگریشن کی حیثیت کی وجہ سے ابل نہیں پایا گوا تھا؟
○ بان ○ نہیں
کون؟

کیا اس درخواست پر کسی نے بھی Marketplace اوبن انرولمنٹ پیریٹ کے دوران یا کسی کو الینک لائف ایونٹ کے بعد کوریج کے لئے درخواست دی ہے؟
○ بان ○ نہیں
کون؟

2. کیا اس درخواست میں مذکور کسی شخص کو ملازمت سے صحت کے کوریج کی پیشکش ملی ہے؟ پان بر نشان لگائیں چاہیے کوریج کسی اور کی ملازمت سے ہو، جیسے والدین یا شریک حیات، کوریج کو قبول نہ کرنے کی صورت میں بھی۔ اگر صرف COBRA کی کوریج فرایم کی جا رہی ہے تو نہیں پر نشان لگائیں。
○ بان جاری رکھیں اور پھر ضمیمہ A کو مکمل کریں۔ ○ نہیں
اگر بان تو کیا یہ ملازمین کے وظیفوں کا ریاستی پلان ہے؟
کیا درخواست میں درج کسی شخص نے انفارڈی کوریج والے صحت کے باز ادائیگی کے معابدے (HRA) HRA کی پیش کش می ہے؟
○ بان ○ نہیں

3. کیا آپھی کوئی اور صحت کے کوریج میں مندرج ہے؟
○ بان، اگر بان، تو سوال 4 پر جاری رکھیں。 ○ نہیں، اگر نہیں، تو سوال 5 پر جائیں۔

4. موجودہ صحت کے کوریج کے بارے میں معلومات، (ابھی 2 سے زیادہ لوگوں کے صحت کا کوریج یونیٹ کی صورت میں اس صفحہ کی ایک کاپی بنائیں) کوریج کی قسم لکھیں، جیسے اجر کا بیمه، COBRA، میڈیکیڈ، CHIP، میڈیکین، VA، TRICARE بیلٹھ کیئر پروگرام، پیس کارپس، یا دیگر۔ (اگر آپ کے پاس راست نگہداشت یا لائن اف ٹیوٹی بے تو بھیں TRICARE کے بارے میں نہ بنائیں)۔
صحت کے کوریج میں مندرج شخص کا نام

کوریج کی قسم:

○ اجر کا بیمه ○ COBRA ○ میڈیکیڈ ○ CHIP ○ میڈیکین ○ پیس کارپس ○ دیگر

اگر یہ آجر کا بیمه ہے تو: (آپ کو ضمیمہ A بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی)
صحت سے متعلق بیمه کمپنی کا نام

پالیسی نمبر / ID نمبر

اگر یہ دوسرے قسم کا کوریج ہے تو: ○ اگر یہ Marketplace بیلٹھ کوریج ہے تو بہاں پُر کریں۔
صحت سے متعلق بیمه کمپنی کا نام

کیا یہ محدود بینفنس پلان ہے، جیسے اسکوں کے حادثے کی پالیسی؟
○ بان ○ نہیں

صحت کے کوریج میں مندرج شخص کا نام

کوریج کی قسم:

○ اجر کا بیمه ○ COBRA ○ میڈیکیڈ ○ CHIP ○ میڈیکین ○ پیس کارپس ○ دیگر

اگر یہ آجر کا بیمه ہے تو: (آپ کو ضمیمہ A بھی مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی)
صحت سے متعلق بیمه کمپنی کا نام

پالیسی نمبر / ID نمبر

اگر یہ دوسرے قسم کا کوریج ہے تو: ○ اگر یہ Marketplace بیلٹھ کوریج ہے تو بہاں پُر کریں۔
صحت سے متعلق بیمه کمپنی کا نام

کیا یہ محدود بینفنس پلان ہے، جیسے اسکوں کے حادثے کی پالیسی؟
○ بان ○ نہیں



مرحلہ 5: آپ رضامندی اور دستخط

1. کیا آپ اکلے 5 سالوں کے لیے، مارکیٹ پلیس کو امنی کے لیٹا، بشمول ٹیکس ریٹن کی استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے منفق ہیں؟ ○ بال نہیں
آنندہ برسوں میں کوریج کی اپنی ابیلت کا تعین کرنے کے لیے، آپ مارکیٹ ٹیکس کو ٹیکس گوشواروں سے متعلق معلومات سمیت جدید امنی کا لیٹا استعمال کرنے کی اجازت دینے پر راضمہ ہیں۔ Marketplace نوٹش بیجے گی اور آپ کو بر قسم کی تبدیلی کرنے دے گی Marketplace اس بات کو یقینی بنانے کا کہ آپ اپنی بھی ابل بین یا نہیں، اور بوسکتے ہیں کہ آپ سے اس بات کی تصدیق کرنی چاہئے کہ آپ کی امنی اپنی بھی ابل ہے۔ آپ کسی بھی وقت باہر اختیار کر سکتے ہیں۔

اگر نہیں، تو میری معلومات کو خود کا طور درج ذیل سالوں کے لیے آپ ٹیکریں: ○ 5 سال 0 4 سال 0 3 سال 0 2 سال 0 1 سال
○ صحت کے کوریج کے لیے ادائیگی میں مدد کے واسطے میری ابیلت کی تجدید کے لیے میرے ٹیکس لیٹا کا استعمال نہ کریں (اس اختیار کو منتخب کرنے سے کوریج کے لیے ادائیگی میں مدد حاصل کرنے کی آپ کی ابیلت متاثر بوسکتے ہیں)۔

2. کیا اس درخواست میں صحت کے بیمه کے لیے کوئی ایسا شخص درخواست دے رہا جسے قید بونی بو (حراست میں لیا گیا یا جیل بونی بو)؟ ○ بال نہیں
اگر بال، تو ہمیں شخص کا نام بنانیں۔ سزا/افاق شخص کا نام بنے:
○ اگر الزامات کے لیے تصفیہ کا سامنا کر رہا ہے
تو یہاں بھریں۔

اگر آپ کی درخواست پر موجود کسی بھی شخص کو Marketplace کی کوریج میں داخلہ لیا گیا ہے اور بعد میں اسے صحت کے دیگر ابیلت (جیسے طبی امداد، یا CHIP) کی قابلیت پائی گئی تو، Marketplace خود بخود ان کے مارکیٹ پلیس پلان کی کوریج کو ختم کر دے گی۔ اس سے بے یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ جو بھی شخص کو الیافی کی دوسرا کوریج پایا گیا ہے وہ Marketplace کوریج میں داخلہ نہیں لے سکے گا اور اسے پوری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔
○ میں اس صورتحال میں Marketplace کی جگہ درخواست پر لوگوں کی Marketplace کو ختم کرنے کی اجازت دینے سے اتفاق کرتا ہو۔
○ میں اس صورتحال میں Marketplace کو کوریج ختم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست پر متاثر افراد مالی مدد کے ابل نہیں بون گے اور انہیں اپنے Marketplace کی منصوبہ بندی کے لئے پوری قیمت ادا کرنا بوجی۔

اگر اس درخواست پر کوئی شخص میڈیکیٹ کے لیے ابل ہے تو:

- میں میڈیکیٹ ایجنٹ کو دیگر صحت کے بیمه، قانونی تصفیہ، یا دیگر فریقین ثالث سے حاصل کرنے اور کوئی بھی رقم لینے کے اپنے حقوق دیتا/ادیتی ہوں۔ میں میڈیکیٹ ایجنٹ کو شریک حیات با والدین سے حاصل کرنے اور طبی تعاون لینے کے اپنے حقوق دیتا/ادیتی ہوں۔
○ کیا اس درخواست میں کوئی بچہ ایسا ہے جس کے والدین گھر سے باہر رہتے ہیں؟ ○ بال نہیں
- اگر بال، تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے سے ایجنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کہا جائے گا جو والدین کی غیر حاضری میں طبی تعاون حاصل کریں گے۔ اگر میرے خیال میں طبی تعاون حاصل کرنے میں مدد کرنا گھوٹے یا میرے نقصان پہنچانے گا، تو میں میڈیکیٹ کو تباہی کا بون اور بوسکتے ہیں کہ میں تعاون نہ کروں۔
○ میں اس درخواست پر دروغ حلی کی سزا کے تحت دستخط کر رہا / رہی ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنی وفاقي قانون کے تحت جرم انوں کا مستوجب ہوں گا۔ معلوم ہے کہ اگر میں نے جان بوجہ کر غلط یا جھوٹی معلومات فرایب کی تو میں وفاقي قانون کے تحت جرم انوں کا مستوجب ہوں گا۔
- جھے معلوم ہے کہ میں نے اس درخواست میں جو کچھ لکھا ہے اس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں (اگر مختلف ہے تو) میرے لیے بیانیہ اشورنس مارکیٹ پلیس کو 30 دنوں کے اندر بنانا ضروری ہے۔ کسی بھی تبدیلی کی اطلاع دینے کے لیے میں HealthCare.gov پر جاسکتا/اسکتی ہوں یا 1-800-318-2596 پر کال کرسکتا/اسکتی ہوں۔ میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ میری معلومات میں تبدیلی سے میری ابیلت ساتھی بی میرے گھر انے کی فرد (افراد) کی ابیلت پر اثر پڑسکتا ہے۔
○ مجھے معلوم ہے کہ وفاقي قانون کے تحت، نسل، رنگ، قومیت، جنس، عمر، جنسی شناخت، یا عنenorی کی بنیاد پر امتیاز منوع ہے۔ میں اس HHS.gov/civil-rights/filing-a-complaint پر باکر امتیاز کی شکایت درج کر سکتا/اسکتی ہوں۔
- مجھے معلوم ہے کہ اس فارم کی معلومات کا استعمال صرف صحت کے کوریج کی ابیلت کا تعین کرنے، کوریج کی ادائیگی میں مدد کرنے (درخواست کیے جانے پر)، اور کوریج کی ادائیگی میں مدد کرنے کے لیے مارکیٹ پلیس اور پروگراموں کے قانونی مقاصد کے لیے جائے گا۔
اگر آپ درخواست دینے کا انتخاب کرتے ہیں تو صحت کی کوریج کی ادائیگی میں مدد کے لیے آپ کی ابیلت کو جانچنے کے لیے بیمیں اس معلومات کی ضرورت ہے۔ بم اندر ہونے مخصوصات کی خدمت (IRS)، سووٹل سیکورٹی، بوم لینڈ سیکورٹی کے مکھم، اور / یا صراف کی اطلاع دینے والی ایجنٹ کے لیے ایک ایڈیشن کی نیتیں اپ کے جوابات کا معاملہ کریں گے۔ اگر معلومات مماثل نہیں ہیں تو، ہم آپ سے تصدیق بھیجنے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔

اگر مجھے لگا کہ میری ابیلت کا نوٹش غلط ہے تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟

- جب ہم آپ کی درخواست پر عمل درآمد کر لیں گے تو آپ کی ڈاک میں ابیلت کا نوٹش موصول ہو گا۔ آپ جس چیز کے لیے ابل بین اگر اسے سے منافق ہیں، تو بہت سے معاملات میں، آپ اپل کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر انے کے کوریج کے لیے درخواست دینے والے بر فرد کے لیے مخصوص اپل سے متعلق بذایات، ساتھی بی ابل کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنے دن ہیں، کا جائزہ لیتے کے لیے اپنی ابیلت کے نوٹش کو پڑھیں۔ اپل کے لیے درخواست دینے وقت غور کرنے کے لیے ایم معلومات ہے ہیں:
- اگر آپ چاہیں تو آپ دیگر کسی شخص سے اپنے اپل کی درخواست یا شرکت کرنے کے لیے کہہ سکتے/اسکتے ہیں۔ وہ شخص دوست، رشته دار، وکیل، یا دیگر فرد بوسکتے ہیں۔ یا، آپ اپنے اپل کی خود سے درخواست دے سکتے یا اس میں شرکت کر سکتے/اسکتے ہیں۔
- اگر آپ اپل کی درخواست کرتے ہیں، تو آپ اپنے اپل کے زیرِ القاء رہنے تک کوریج کے لیے اپنی ابیلت برقرار رکھنے کے ابل بوسکتے ہیں۔
- اپل کے نتیجے سے آپ کے گھر انے کے دوسرے افراد کی ابیلت میں تبدیلی بوسکتے ہیں۔

اپنے مارکیٹ پلیس کی ابیلت کے نتائج کی ابیلت کے لیے، HealthCare.gov/marketplace-appeals پر کال کریں۔ یا مارکیٹ پلیس کال سیٹر کو 1-800-318-2596 پر کال کریں۔ TTY صارفین 1-855-889-4325 پر کال کر سکتے ہیں۔ آپ اپل کی درخواست کا فارم یا اپنے خطکے ذریعہ اپل کی درخواست کے نتائج کی ابیلت کے نتائج کی ابیلت کے نتائج کے پتے پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان جیزوں کے لیے منع کر دیا گیا ہو تو، آپ مارکیٹ پلیس، اندر ہوئے، ٹیکس کریٹس، لاگت کے اشتراک میں تخفیف، میڈیکیٹ، اور CHIP کے ذریعہ صحت کا کوریج فریبیت کے لیے اپل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکس کریٹس لاگت کے لیے اپل کو اسے منع کر دیتے ہیں تو، آپ کی ابیلت کے لیے بارے ذریعہ اپل کر سکتے ہیں۔ اپل کو اسے منع کر دیتے ہیں تو، آپ کو اسے اشتراک میڈیکیٹ با CHIP ایجنٹ کے ہیاں اپل کی درخواست کرنے پر بوجی۔

فرد 1 کو اس درخواست پر دستخط کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک مجاز نمائندہ ہیں، تو فرد 1 کے ضمیمہ C پر دستخط کرنے پر، آپ بیان دستخط کر سکتے ہیں۔

دستخط کی تاریخ (م/د/س میں س میں)

اگر آپ اس درخواست پر کھلے اندرج والے وقفہ (1 نومبر اور 15 جنوری) سے باہر دستخط کرتے ہیں، تو ضمیمہ D ("زنگی کی تبدیلیوں کے بارے میں سوالات") کا جائزہ لینا یقینی بنائیں۔



مرحلہ 6: مکمل شدہ درخواست بذریعہ ڈاک بھیجن

اگر آپ ووٹ دینے کے لیے رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ [Vote.gov](#) پر ووٹر رجسٹریشن فارم مکمل کر سکتے ہیں۔



اپنی دستخط شدہ درخواست اس پتے پر بذریعہ ڈاک بھیجن:
**Health Insurance Marketplace
Dept. of Health and Human Services
Attn. Appeals, 465 Industrial Blvd
London, KY 40750-0001**



انگریزی کے علاوہ دیگر زبان میں مدد حاصل کرنا

اگر آپ یا جس کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں اسے بیلٹھ انسورنس مارکیٹ پلیس کے بارے میں سوالات درپیش ہیں تو آپ کو بلا قیمت اپنی زبان میں مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ مترجم سے بات کرنے کے لیے **1-800-318-2596** پر کال کریں۔

یہاں دستیاب زبانوں کی فہرست ہے اور بھی پیغام ان زبانوں میں فراہم کیا گیا ہے:

Español (Spanish)

Si usted o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas sobre el Mercado de Seguros Médicos, tiene derecho a obtener ayuda e información gratis en su idioma. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-318-2596.

中文 (Chinese)

你有權利免費用您的語言獲得幫助和資訊。要用中文與傳譯員探討健康保險市場，請致電 1-800-318-2596。

tiếng Việt (Vietnamese)

Nếu quý vị, hoặc ai đó đang được quý vị giúp đỡ, có câu hỏi về Health Insurance Marketplace®, quý vị có quyền nhận sự giúp đỡ và thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với thông dịch viên gọi số 1-800-318-2596.

한국어 (Korean)

귀하는 귀하의 언어로 도움과 정보를 무료로 받을 수 있는 권리가 있습니다.
한국어로 건강 보험 시장(Health Insurance Marketplace®)에 대하여 통역사에게 이야기하려면, 1-800-318-2596 번으로 전화하십시오.

العربية (Arabic)

لكل الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات في اللغة الخاصة بك مجاناً. وللتحدث مع مترجم في اللغة العربية حول سوق التأمين الصحي، يرجى الاتصال على 1-800-318-2596.

Kreyòl (French Creole)

Ou gen tout dwa pou resevwa èd ak enfòmasyon nan lang ou pou gratis. Pou pale avèk yon entèpretè an Kreyòl konsènan Mache Asirans Medikal (Health Insurance Marketplace®), rele 1-800-318-2596.

Tagalog (Tagalog)

Mayroon kang karapatan makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika na walang gastos. Upang makipag-usap sa isang tagapagsalin sa Tagalog tungkol sa Health Insurance Marketplace®, tumawag sa 1-800-318-2596.

افشاء کا بیان: کاغذی کارروائی میں کمی کے قانون برائے 1995 کے مطابق، کسی شخص کو معلومات جمع کرنے کے عمل کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تاوقیکہ اس پر ایک جائز OMB نمبر موجود نہ ہو۔ معلومات کی اس جمع اوری کے لیے جائز OMB کنٹرول نمبر 0938-1191 ہے۔ معلومات کی اس جمع اوری کو مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ وقت کا تخمینہ اوسطًا 45 منٹ فی جواب کا اندازہ ہے، جس میں بدایات کو پڑھنے، ڈیٹا کے موجودہ مخذلات تالش کرنے، درکار ڈیٹا جمع کرنے، اور معلومات کی جمع اوری مکمل کر کر اس پر نظر ثانی کرنے کا وقت شامل ہے۔ اگر وقت کے تخمینہ (تخمینے) کی درستگی کے بارے میں اب کے تشکیبات ہوں یا اس فارم کو بہتر بنانے کے لیے مشورے ہوں تو، براہ کرم اس پتے پر لکھیں: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.



انگریزی کے علاوہ دیگر زبان میں مدد حاصل کرنا (جاری)

Polski (Polish)

Każdy ma prawo uzyskać bezpłatnie pomoc i informacje we własnym języku. Aby porozmawiać z tłumaczem po polsku na temat Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych (Health Insurance Marketplace®), należy zadzwonić pod numer 1-800-318-2596.

Русский (Russian)

Вы имеете право бесплатно получить помощь и информацию на родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком на русском о платформе Health Insurance Marketplace® (рынок медицинского страхования), позвоните по телефону 1-800-318-2596.

Français (French)

Vous avez le droit d'obtenir de l'aide et des renseignements dans votre langue sans aucun coût. Pour consulter un interprète en français quant au Marché d'assurance santé, composez le 1-800-318-2596.

Deutsch (German)

Sie haben das Recht, Hilfe und Informationen kostenlos in Ihrer eigenen Sprache in Anspruch zu nehmen. Um mit einem Dolmetscher für die deutsche Sprache über den „Health Insurance Marketplace“ zu sprechen, rufen Sie bitte diese Nummer an: 1-800-318-2596.

ગુજરાતી (Gujarati)

તમને વિના મૂલ્યે તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. આરોગ્ય વીમા વ્યાપારબજાર વિશે દુભાખિયા સાથે ગુજરાતીમાં વાતચીત કરવા, કોલ કરો 1-800-318-2596

Português (Portuguese)

Você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem nenhum custo adicional. Para falar com um intérprete de [Português] sobre o Mercado de Seguros de Saúde, ligue para 1-800-318-2596.

Italiano (Italian)

Se voi, o una persona che state aiutando volete chiarimenti mercato delle assicurazioni mediche (Health Insurance Marketplace®), avete il diritto di ottenere assistenza e informazioni nella vostra lingua a titolo gratuito. Per parlare con un interprete potete chiamare il numero 1-800-318-2596.

日本語 (Japanese)

ご自身か、もしくはサポートされている誰かがHealth Insurance Marketplace®に問い合わせたい場合は、日本語サポートと情報提供を無料で得る資格を有しています。1-800-318-2596までご連絡いただき、通訳とお話し下さい。

افشاء کا بیان: کاغذی کارروائی میں کمی کے قانون برائے 1995 کے مطابق، کسی شخص کو معلومات جمع کرنے کے عمل کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تاوقیکہ اس پر ایک جائز OMB نمبر موجود نہ ہو۔ معلومات کی اس جمع اوری کے لیے جائز OMB کنٹرول نمبر 0938-1191 ہے۔ معلومات کی اس جمع اوری کو مکمل کرنے کے لیے مطلوب وقت کا تخمینہ اوسطًا 45 منٹ فی جواب کا اندازہ ہے، جس میں بدایات کو پڑھنے، ڈیٹا کے موجودہ مخذلات تلاش کرنے، درکار ڈیٹا جمع کرنے، اور معلومات کی جمع اوری مکمل کرکے اس پر نظر ثانی کرنے کا وقت شامل ہے۔ اگر وقت کے تخمینہ (تخمینے) کی درستگی کے بارے میں اپنے تشویشات ہوں یا اس فارم کو بہتر بنانے کے لیے مشورے ہوں تو، براہ کرم اس پر لکھیں: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.

مکمل نہ کریں۔ یہ صفحہ مقاصد کے لئے ہے

Form Approved
OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025

ضمیمه A: ملازمتوں سے صحت کا کوویرج

آپ کو تک ان سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک گھرانے کا کوئی فرد ملازمت سے صحت کے کوویرج کا اپنے بوجاتا، چاہے وہ کوویرج کو قبول نہ کرے۔ اگر صرف COBRA کی کوویرج پیش کی جا رہی ہے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت نہیں۔ کوویرج کی پیشکش والی بر ملازمت کے لیے اس صفحہ کی ایک کاپی منسلک کریں۔

بمیں اس ملازمت کے بارے میں بتائیں جو کوویرج کی پیشکش کرتی ہے۔
ان سوالوں کے جواب میں مدد کے لیے اس صفحہ کی ایک کاپی بتائیں اور اسے اس اجر کے پاس لے جائیں جو کوویرج کی پیشکش کرتے ہیں۔

ملازم کی معلومات

1. ملازم کا نام (پہلا، درمیانی، آخری)

2. ملازم کا سوشل سیکورٹی نمبر




اجر کی معلومات


3. اجر / کمپنی کا نام



5. اجر کا فون نمبر



4. اجر کا شناختی نمبر (EIN)



اب، اس فرد یا ٹیکارٹمنٹ کی معلومات درج کریں جو ملازمین کے بینیقش کا نظم کرتا ہو۔ اگر بمیں مزید معلومات کی ضرورت ہوگی تو ہم اس فرد سے رابطہ کر سکتے ہیں:

6. ایسا فرد یا شعبہ جس سے ہم ملازمین کے صحت کے کوویرج کے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں



7. اجر کا پتہ (Marketplace) اس پتے پر نوٹسز بھیج سکتا ہے



10. زپ کوڈ 9. ریاست



8. شہر

11. ای میل پتہ



11. فون نمبر (اگر مذکور بالا سے مختلف ہو)

13. کیا ملازم کو آجر نے پہلے کوویرج کی پیش کش کی ہے؟ صرف اس صورت میں "پاں" منتخب کریں اگر انہیں اگلے ماہ کے آغاز سے یا عام اندراع کے دوران درخواست دینے کی صورت میں 1 جنوری سے کوویرج کی پیش کش کی جائے گی۔ (1 نومبر تا 15 جنوری)

بان (جاری) نہیں (آخر) نہیں (رکیں اور یہ فارم ملازم کو واپس کر دیں)

ملازم: کوویرج کے لیے اپنی درخواست واپس کریں۔

کیا آجر ایک ایسا پہلے پلان پیش کرتا ہے جو اس ملازم کے شریک حیات یا منحصر فرد (افراد) کا احاطہ کرتا ہو؟

پاں اگر پاں تو، کن لوگوں کا؟ شریک حیات منحصر فرد (افراد) نہیں (سوال 14 پر جائیں)۔

ملازم کے گھرانے کے کسی ایسے دیگر فرد کا نام درج کریں جو اس ملازمت سے کوویرج کے لیے اپلے۔

نام



نام



نام



اگلے صفحہ پر جاری رکھیں



بمیں اس آجر کے ذریعہ پیش کردہ بیانیہ کو ریج کے بارے میں بتائیں۔

14. کیا آجر نے ایسے بلینے پلان کی پیشکش کی ہے جو معیاری کم از کم قدر کی تکمیل کرتا ہو؟
 ب (سوال 15 پر جائیں) نہیں (رکیں اور اس فارم کو ملازم کو واپس کر دیں)

15. ملازم کو پیشکش کردہ کم تر لاگت کے پلان کے لیے ملازم کو کتنی بوجی کرنی بوجی جو صرف معیاری کم از کم قدر کی تکمیل کرتا ہے؟ فیملی پلانز کو شامل نہ کریں۔

a. ملازم اس پریمیم کی ادائیگی کرے گا: \$

نوٹ: کم تر رقم درج کریں جسے ملازم سخت کے کو ریج کے لیے ادا کر سکتا ہے۔

b. ملازم اس رقم کی ادائیگی کرے گا: بقہہ واری بر 2 بفتہ پر مہینہ میں ایک بار سہ ماہی سالانہ

16. اگر گھرانے کے دیگر افراد سوال 13 کے لیے درج ہیں: ملازم سب سے کم لاگت والے منصوبے کے لیے کتنی رقم ادا کرے گا جو سوال 13 میں درج ملازم اور گھرانے کے ممبران کا احاطہ کرتا ہے؟ اگر فلاخ و بیبود کے پروگرام پیش کرتا ہے، تو وہ پریمیم درج کریں جو ملازم ادا کرے گا اگر ملازم کو تمباکونوشی ترک کرنے کے پروگراموں کے زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ ملے اور اسے فلاخ و بیبود کے پروگراموں کی بنیاد پر کوئی اور ڈسکاؤنٹ نہ ملے۔

a. ملازم اس پریمیم کی ادائیگی کرے گا: \$

b. ملازم اس رقم کی ادائیگی کرے گا: بقہہ واری بر 2 بفتہ پر مہینہ میں ایک بار سہ ماہی سالانہ

* صحت کا بیمه ایسی صورت میں کم از کم قدر والے معیار کی تکمیل کرتا ہے اگر یہ معیاری آبادی کے لیے طبی خدمات کی کل لاگت کے کم از کم 60% کی ادائیگی کرتا ہو اور بسپتال اور ڈاکٹر کی خدمات کا معقول کو ریج پیش کرتا ہو۔ ملازمت پر مبنی زیادہ تر پلانز کم از کم قدر والے معیار کی تکمیل کرتے ہیں۔





ضمیمه C: اس درخواست کو مکمل کرنے میں مدد کریں۔

اگر آپ کسی اور کے لیے اس درخواست کو مکمل کرنے والے مستند صلاح کار، نیویکیٹر، ایجنٹ، اور بروکر بین تو اس سیکشن کو مکمل کریں۔

1. درخواست کے شروع یوں کی تاریخ (ماہ/دن/سال)	
2. پیلا نام، درمیانی نام، آخری نام، اور لاحقہ	
3. تنظیم کا نام	
4. ID نمبر (اگر اطلاق ہو)	
5. صرف ایجنس / بروکر: NPN نمبر	

آپ ایک مستند نمائندہ منتخب کر سکتے ہیں۔

اپ بمارے ساتھ اس درخواست پر بات کرنے، اپنی معلومات کو دیکھئے، اور اس درخواست سے متعلق معاملات پر آپ کی جانب سے عمل کرنے، بشرطیں آپ کی درخواست کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور آپ کی جانب سے آپ کی درخواست پر دستخط کرنے کے لیے، کسی قابل اعتماد شخص کو اجازت دے سکتے ہیں۔ اپنے شخص کو ایک "محاذ نامانندہ" کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی اپنے محاذ نامانندہ کو تبدیل باٹھانا چاہتے ہیں، تو مارکیٹ پلیس سے رابطہ کریں۔ اگر آپ نے اس درخواست کے لیے کسی کو قانونی طور پر اپنا نامانندہ مقرر کیا ہے، تو درخواست کے ساتھ ثبوت جمع کریں۔

		1. مجاز نمائنده کا نام (پہلا نام، درمیانی نام، آخری نام	
2. پنہ			
3. گھر کا پتہ			
4. شہر			
5. ریاست			
6. زپ کوڈ			
7. فون نمبر			
8. تنظیم کا نام			
9. ID نمبر (اگر اطلاق ہو)			

سیکھی معمالات میں اپنی جانب سے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

10. اس درخواست میں مندرج فرد 1 کا دستخط
11. دستخط کی تاریخ (ماہ/دن/سال)



ضمیمه D: زندگی کی تبدیلیوں کے بارے میں سوالات

(آپ کو اس صفحہ کے ساتھ اس درخواست کے باقی حصوں کو مکمل کرنا چاہئے۔ صرف اسی صفحہ کو جمع نہ کریں)۔

اگر اس درخواست کے کسی فرد نے زندگی کی کچھ تبدیلیاں تجربہ کیں جیسے صحت کا احتاط کہونے، شادی کرنا، یا ایک بچہ پیدا کرنا - پچھلے 60 دنوں میں (اگلے 60 دنوں میں توقع کرتا ہے)، تو یہ صفحہ پر کریں اور اپنی مکمل، دستخط شدہ درخواست میں اسے شامل کریں۔ زندگی میں کچھ تبدیلیاں آپ کے کوریج کو Marketplace کے ذریعہ فوراً بونے دیتی ہیں۔ اگر آپ سالانہ اپنے اندر اس کے عرصے سے باہر درخواست دے رہے ہیں تو ہم آپ کو ان سوالوں کے جوابات دینے کی بھی سفارش کرتے ہیں (1 نومبر تا 15 جنوری)۔

بے سوالات اختیاری ہیں۔ اگر آپ کے حالات زندگی میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو، آپ جوابات کو خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ سال میں کسی بھی وقت میڈیکیٹ اور چلائرنzel بیلتھ انسورنس پروگرام (CHIP) میں اندر اس کریں اور اپ کو زندگی میں تبدیلیوں کا سامنا نہ بھی بوا بوا۔ وفاqi طور پر شناخت کردہ قبائل کے ممبران اور شیئر بولڈر الاسکانی باشندے سال کے کسی بھی وقت مارکیٹ پلیس کے ذریعہ کوریج میں اندر اس کریں۔

اپنے گھرانے میں بھئی تبدیلیوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔

1. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کسی شخص کا تخصیصی صحت کا کوریج ختم ہوا ہے، یا اگلے 60 دنوں میں تخصیصی صحت کا کوریج ختم ہونے کی توقع ہے؟

ان کے نام	
وہ تاریخ جب کوریج ختم ہوئی یا ختم ہو گئی	(م / د / س سن سن)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

2. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کسی کی شادی ہوئی ہے؟

ان کے نام	
تاریخ (م / د د / س سن سن)	
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> بان	<input checked="" type="radio"/> بانی
اگر بان تو، یہاں ان کا (کے) نام درج کریں:	

3. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کسی کو قید (حراست یا جیل) سے رہائی ملی ہے؟

ان کے نام	
تاریخ (م / د د / س سن سن)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

4. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کسی نے اپل امیگریشن والی حیثیت حاصل کی ہے؟

ان کے نام	
تاریخ (م / د د / س سن سن)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کسی کو گود لیا گیا، گود لینے کے لیے پیش کیا گیا ہے، یا رضاعی نگہداشت کے لیے دیا گیا ہے؟


ان کے نام	
تاریخ (م / د د / س سن سن)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

6. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کوئی چانٹل سپورٹ یا دیگر عدالتی حکم کے تحت منحصر ہے؟

ان کے نام	
تاریخ (م / د د / س سن سن)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

7. کیا پچھلے 60 دنوں میں کوئی منتقل ہوا؟

ان کے نام	
منتقل کی تاریخ (م / د د / س سن سن)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

a. آپ کے سابقہ پتہ کا زپ کوڈ کیا ہے؟ اگر آپ کسی بیرون ملک یا امریکی علاقے سے منتقل ہو گئے ہیں تو یہاں پُر کریں.b. کیا گزشتہ 60 دنوں میں کسی بھی وقت ان میں سے کسی فرد کو صحت کا تخصیصی کوریج حاصل رہا؟
 بان بانی

اگر بان تو، ذیل میں ان کا نام درج کریں:

ان کے نام

